

11 اپریل 2018

کیا میونسپل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے؟

برامپٹن، آن - اکتوبر 2018 کے میونسپل الیکشن میں ابھی 6 مہینوں سے زیادہ وقت رہتا ہے مگر ابھی چند منٹ لگا کر یہ دیکھ لینا ووٹ ڈالنے والے دن آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کر سکتا ہے کہ آیا آپ کا نام ووٹ دہندگان کی ابتدائی فہرست میں موجود ہے یا نہیں۔ سٹی آف برامپٹن تمام اہل ووٹ دہندگان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ www.voterlookup.ca پر جا کر یہ چیک کر لیں کہ آیا ووٹ دہندگان کی ابتدائی فہرست میں ان کا نام شامل ہے یا نہیں اور یہ کہ ان کی جملہ معلومات درست ہیں۔

میونسپل پراپرٹی ایسیمنٹ کارپوریشن (MPAC) ووٹ دہندگان کی ایک ابتدائی فہرست ترتیب دیتی ہے جس کو بعد میں میونسپل الیکشن اور اسکول بورڈ کے الیکشن کی ووٹر لسٹ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ MPAC کی جانب سے Voterlookup.ca ایک آن لائن سروس ہے۔ ووٹ دہندگان کے لیے یہ ایک آسان اور مؤثر طریقہ ہے کہ وہ یہ تصدیق کر لیں کہ ان کے نام آنے والے میونسپل الیکشن اور اسکول بورڈ الیکشن کی ووٹر لسٹ میں موجود ہیں اور یہ کہ ان کی تمام معلومات درست ہیں۔

سرخیان:

- ایک اہل ووٹر وہ ہوتا ہے جس کی عمر کم از کم 18 سال ہو، وہ کینیڈا کا شہری ہو، برامپٹن میں رہائش پذیر ہو یا وہ برامپٹن میں کسی پراپرٹی کا مالک یا کرایہ دار ہو یا یہاں کے کسی رہائشی کا جیون ساتھی ہو
- یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا آنے والے میونسپل الیکشن کے لیے آپ کی معلومات درست ہے، براہ کرم voterlookup.ca پر جائیں اور اپنی میونسپلٹی، پورا نام، تاریخ پیدائش اور اپنی پراپرٹی کا پتہ یا ایسیمنٹ رول نمبر درج کریں
- اگر سابقہ میونسپل الیکشن کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام موجود تھا، تو پھر بھی فہرست کو چیک کریں اور تصدیق کریں کہ آپ کی معلومات درست ہوں
- کیا آپ کی عمر پچھلے چند سال کے دوران 18 سال ہوئی ہے؟ کیا آپ حال ہی میں برامپٹن میں منتقل ہوئے ہیں یا یہیں پر کسی نئی جگہ پر منتقل ہوئے ہیں؟ کیا آپ کینیڈا کے نئے شہری ہیں؟ یہاں پر اپنی معلومات کو تازہ کریں voterlookup.ca
- مزید جاننے کے لیے voterlookup.ca ملاحظہ کریں یا MPAC سے 1-866-296-6722 پر یا بذریعہ ٹی ٹی وائی 6722-6722-1-877-889 پر رابطہ کریں

اقتباس:

"MPAC کی voterlookup.ca میونسپل الیکشن 2018 کی ووٹر لسٹ کی تیاری کے لیے پہلا اہم مرحلہ ہے۔ اہل ووٹرز یہ یقینی بنا کر مدد کر سکتے ہیں کہ فہرست میں موجود ان کے بارے میں معلومات تازہ ترین اور درست ہے۔ اس کی وجہ سے ووٹنگ والے دن ووٹنگ کی جگہ پر وقت بچانے میں مدد ملے گی۔"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اینڈ ریٹرننگ آفیسر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں www.brampton.ca اور www.brampton.ca پر مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل
میڈیا کوارڈینیٹر
سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654